

(2016-2018 اور 2015-2017 تقابلی سیشن کے لیے) (امیدوار خود پُر کرے)

CHEMISTRY

017 - (نمبر کا اس)

Q. Paper : I (Objective Type)

PAPER CODE = 5486

Time Allowed : 15 Minutes

Maximum Marks : 12

I : (موضوعی طرز)

وقت : 15 منٹ

کل نمبر : 12

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A B A C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی گاہی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں ہر سوال کا جواب خالی اور ہر سوال کا

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

Which one of the following solutions contain more water : 0.25 M (D) 0.5 M (C) 1 M (B) 2 M (A)	1-1 درج ذیل سے کس سلوشن میں پانی زیادہ ہوتا ہے :
_____ is a non-electrolyte : NaOH solution / NaOH کا محلول (B) H ₂ SO ₄ solution / H ₂ SO ₄ کا محلول (D)	2 _____ ایک نان الیکٹرو لائٹ ہے : NaCl solution / NaCl کا محلول (A) Sugar solution / چینی کا محلول (C)
The molecule which has triple covalent bond : C ₂ H ₄ (D) N ₂ (C) O ₂ (B) H ₂ (A)	3 مائیکول جس میں ٹریپل کوویلنٹ بانڈ پایا جاتا ہے :
The oxidation number of Cl in KClO ₃ is : +7 (D) +6 (C) +5 (B) +4 (A)	4 KClO ₃ میں کلورین "Cl" کا آکسڈیشن نمبر ہے :
The percentage of nitrogen in air is : 20 % (D) 21 % (C) 78 % (B) 70 % (A)	5 ہوا میں نائٹروجن کی فی صد تک ہے :
Mist is an example of solution : Gas in liquid مائع میں گیس (B) Gas in solid ٹھوس میں گیس (D)	6 دھند جس سلوشن کی مثال ہے وہ ہے : Liquid in gas گیس میں مائع (A) Solid in gas گیس میں ٹھوس (C)
The mass of one molecule of water is : 25 amu (D) 20 amu (C) 19 amu (B) 18 amu (A)	7 پانی کے ایک مائیکول کا ماس ہوتا ہے :
The gas with maximum rate of diffusion is : Chlorine کلورین (D) Fluorine فلورین (C) Hydrogen ہائیڈروجن (B) Helium ہیلیم (A)	8 گیس جو تیزی سے پھیلتی ہے :
Who discovered atomic number : Bohr بور (D) Rutherford رتھرفورڈ (C) Moseley موزلی (B) Dalton ڈالٹن (A)	9 ایٹم نمبر کس نے دریافت کیا :
The isotope used to generate electricity in nuclear reactor is : P-32 (D) CO-60 (C) U-235 (B) C-12 (A)	10 آئسوٹوپ جو نیوکلیئر ری ایکٹر میں بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے :
The most reactive metal is _____ : Gold گولڈ (D) Copper کانپر (C) Zinc زنک (B) Sodium سوڈیم (A)	11 _____ سب سے زیادہ ری ایکٹیو میٹل ہے :
The shortest period of periodic table is : First پہلا (D) Second دوسرا (C) Third تیسرا (B) Fourth چوتھا (A)	12 ہیراڈک ٹیبل میں سب سے چھوٹا پیریڈ ہے :

Ans. 1D,2C,3C,4B,5B,6A,7A,8B,9B,10B,11A,12D